



## سوال

سلسلۃ النہول سے طہارت کا طریقہ؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک شخص کو تقاطر بول کی پریشانی ہے۔ جب وہ استنجا وغیرہ کے لیے جاتا ہے تو اس سے فراغت کے فوراً بعد وہ نماز یا دیگر عبادت نہیں کر سکتا، کیوں کہ پشاب کا قطرہ وقفہ وقفہ سے آتا رہتا ہے، جس کی بنا پر اس کا وضو نہیں ہو سکتا۔ تقریباً ہر استنجا کے بعد اسے ایک گھنٹہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے وہ انڈرویر میں ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا کپڑا ناپاک نہ ہو۔ جب وہ ایک گھنٹہ میں مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب تقاطر بند ہو گیا، تو پھر وہ طہارت حاصل کر کے وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے۔

اب قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ اس بار حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ اور حالت احرام میں وہ انڈرویر نہیں پہن سکتا، اور اس کی بنا پر وہ طہارت کے لیے ٹشو بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ بہت پریشان ہے کہ کیا جائے؟ قطرہ ٹپکے گا، احرام ناپاک ہوگا، بدن پر گرا تو وہ بھی ناپاک ہوگا، اور احرام بھی کتنا تبدیل کیا جائے۔ کتنی بار بدن دھویا جائے۔ انڈرویر استعمال کر کے دم کی ادائیگی بھی اس کے مسئلہ کا حل نہیں ہے۔ اور نہ ہی وہ شرعی معذوری فہرست میں ہے۔

لہذا جواب طلب امر یہ ہے کہ کیا وہ ٹشو استعمال کرنے کے لیے انڈرویر کی جگہ ”لنکوٹ“ یا ”ڈائپر“ پہن سکتا ہے؟ گویا سلعے ہونے لباس کی فہرست میں نہیں ہے، تاہم عام حالت میں استعمال کیا جانے والا لباس میں اس کا شمار ہوتا ہے، جس کی ممانعت حالت احرام میں ہے۔ برائے کرم جلد از جلد مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں۔؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

یہ بھی ایک بیماری ہے جسے سلسلۃ النہول کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، آپ شرعی طور پر نڈور ہیں۔ اس بیماری کے مریض شخص کے بارے میں اہل فرماتے ہیں کہ اسے وضو کر لینے کے بعد ایک دفعہ اپنے کپڑوں پر پانی چھینٹنے یا لینے چاہئیں اور اپنی عبادت نماز وغیرہ شروع کر دینی چاہئیں، اور دوران نماز گرنے والے قطروں کی طرف دھیان نہیں دینا چاہئے جیسے مستحاضہ عورت کرتی ہے۔ نبی کریم نے مستحاضہ عورت کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

(توضیح وقت گل صلاۃ) (بخاری: 228)

تو ہر نماز کے لئے وضو کیا کر۔

لہذا آپ کو لنکوٹ یا ٹشو کے حوالے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وضو کر کے اپنے ارکان شروع کر دیجئے گا اور نماز کے لئے وضو کرتے رہئے گا۔ ان شاء اللہ آپ کی



تمام عبادات اللہ قبول کرنے والا ہے۔

حد امانہ مذی والتدرا علم بالصواب

فتویٰ کمیٹی

محدث فتویٰ